

عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صرف عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور کیا یہ مردوں کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہوں تو جائز ہے؟

سائلہ: عثمان فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر مرد موجود نہ ہوں تو عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا بلاکراہت جائز ہے کیونکہ تنہا عورتوں کا نماز جنازہ کی جماعت کروانا مکروہ نہیں ہے جیسا کہ ردالمحتار میں ہے۔ "وَاعْلَمُ أَنَّ جَمَاعَتَهُنَّ لَا تُكْرَهُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ" جان کہ فقط عورتوں کا نماز جنازہ کی جماعت کروانا مکروہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے۔

(درمختار مع رد المحتار باب الامامة ج 1 ص 565)

بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ساقط ہوجاتا ہے جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔ اگر عورت نے نماز جنازہ پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتدا کی تو لوٹائی نہ جائے کہ اگرچہ مردوں کی اقتدا صحیح نہ ہوئی مگر عورت کی نماز تو ہوگئی، وہی کافی ہے۔

(بہار شریعت ج 1 حصہ 4 ص 826 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

مگر عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہوکر نماز جنازہ ادا کرنا مطلقاً مکروہ ہے جیسا کہ تنویر الابصار مع درمختار میں ہے۔ وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا" عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہونا مطلقاً مکروہ ہے۔

(تنویر الابصار مع درمختار باب الامامة ج 1 ص 566)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

WOMEN OFFERING THE FUNERAL PRAYER

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

Question:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Can only women offer a *janaza* (funeral) prayer? Can they pray it along with men?

Questioner: Uthman from England

Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Offering of the *janaza* prayer by women is permissible without any dislike, if men are not present. Offering the *janaza* prayer in congregation exclusively by women, is not *makruh* (disliked).

It is stated in Radd al-muhtar:

وَاعْلَمُ أَنَّ جَمَاعَتَهُنَّ لَا تُكْرَهُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ

Translation: “Know! Offering the *janaza* prayer in congregation exclusively by women, is not *makruh*, as the *janaza* prayer is *fard* (obligatory).” [Durr al-mukhtar ma’ radd al-muhtar, vol. 1, pg. 565]

The obligation is fulfilled even if one woman offers the *janaza* prayer alone.

It is stated in Bahar-e Shari’at: “If a woman leads a *janaza* prayer and a man follows her, then the prayer is not to be repeated. Even though men following women is not correct, the woman’s prayer is valid, which is sufficient. [Bahar-e Shari’at, vol. 1, part 4, pg. 826]

Women joining men in a congregation of the funeral prayer is absolutely disliked.

It is mentioned in Tanwir al-absar ma’ durr al-mukhtar:

وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا

Translation: “Women joining men in a congregational prayer is absolutely disliked.” [Tanwir al-absar ma’ durr al-mukhtar, vol. 1, pg. 566]

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by the SeekersPath Team